



نوٹس

2

## غذا اور غذا بیت

ذرا سوچیے آپ نے کل کیا کھایا تھا۔ نیچے دیے ہوئے خاکے میں اُن تمام چیزوں کے نام لکھیے جو آپ نے کل کھائی تھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ان میں مختلف قسم کی چیزیں کھائی ہیں۔ ہمیں مختلف قسم کی چیزیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کھانا کن غذا تی اجزا سے مل کر بناتے ہیں؟ یہ غذا تی اجزاء کس طرح ہماری مدد کرتے ہیں؟ اس سبق میں ہم انھیں سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔

**خاکہ 2.1** کل کھائے گئے غذا تی اجزاء کی فہرست

ناشتہ	دو پہر کا کھانا	شام کی چائے	رات کا کھانا (ڈنر)

مقاصد



یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ

غذا اصطلاح کی تشریح اور اس کے کام بیان کر سکیں گے؛

- ہمارے جسم کو غذا بیت دینے والے غذا تی جز کی اہمیت، اُن کے ذرائع اور ان کے اہم کاموں کو بیان کر سکیں گے؛

صحیت مند زندگی کے لیے غذا اور غذا بیت کے روول کو بیان کر سکیں گے؛

- کم خوراکی کی اصطلاح اور اس کے اثرات کو بیان کر سکیں گے؛

- کم خوراکی سے بچاؤ کے لیے مناسب تجویز پیش کر سکیں گے۔



نوٹ

## 2.1 صحت مند زندگی کے لیے کھانا اور اس کی اہمیت

کھانا نہ صرف ہماری بھوک مٹا تا ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے تو انائی بھی فراہم کرتا ہے۔ کھانا سماجی تقریبات کا بھی اہم حصہ ہے۔ جب آپ اپنے کسی دوست کے گھر جاتے ہیں تو وہاں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کھانے کی سماجی اہمیت ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے گھر کے کھانے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس طرح کھانے کے کئی عمل ہیں۔ کھانے کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی، آپ نے درست فرمایا۔ کھانے سے ہماری بھوک مٹتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی کھانا اہم تقریبات کا بھی ایک لازمی جو ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کھانے کے اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھیں۔

### 2.1.1 کھانے سے تو انائی حاصل ہوتی ہے

ہر آدمی کو کام کرنے کے لیے تو انائی / طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلنے پھرنے، کھیلنے، کھانے، گھر اور باہر کے کام کرنے یعنی ہر کام کے لیے ہمیں طاقت / تو انائی کی ضرورت ہے۔



تصویر 2.1

### 2.1.2 جسم کی نشوونما یا بڑھوتری اور بافتوں کی مرمت میں کھانے کی اہمیت

ایک چھوٹا بچہ بڑھ کر نوجوان بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کی بڑھوتری / نشوونما اور کھانے کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ ہمارا جسم ہزاروں چھوٹے چھوٹے خلیوں (Cells) سے مل کر بنتا ہے۔ جسم میں جب نئے خلیے / سیل بنتے ہیں تو جسم میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ نئے خلیے بنانے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا بڑھوتری اور نشوونما کے ساتھ ساتھ نئے خلیے (Cells) بھی بناتا ہے۔

## ماڈیول-1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹ

اس طرح کھانا نہ صرف جسم کی نشوونما اور بڑھوتری میں مددگار ہوتا ہے بلکہ بافتواں (ریشون) کی افزائش میں بھی مددگار ہوتا ہے۔

## 2.1.3 بیماریوں کے دفاع میں کھانے کی اہمیت

ہم ہر وقت بیماریاں پیدا کرنے والے حیاتی مادوں (organisms) سے کھرے رہتے ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے میں کھانا ہماری مدد کرتا ہے۔ پھر بھی اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو کھانا ہی ٹھیک ہونے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔

## 2.1.4 جسمانی اعضاء کی بہتر کارکردگی کے لیے کھانے کی اہمیت

کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل ہمارے اعضاۓ رئیس (vital organs) ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں جیسے دل ہر وقت خون پمپ کرتا رہتا ہے، آنتی ہر وقت کچھ نہ کچھ ہضم کرتی رہتی ہیں، پھیپھڑے ہر وقت ہوا کھینچ کر پھولتے اور سکڑتے رہتے ہیں، تو ان سب اعضاء کو بھی اپنے کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں اسی کھانے سے ملتی ہے، جو ہم روزانہ کھاتے ہیں۔

## عملی کام 2.1



انورادھا اور سونالی اپنے والدین، چھوٹے بھائی اور ایک کٹے کے ساتھ بڑی خوش حال زندگی گزار رہی تھیں۔ اچانک ایک ایک کر کے ان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد ان کا کتنا بھی مر گیا۔ ابھی وہ اس صدمے سے نکل نہیں پائی تھیں کہ ان کے چھوٹے بھائی کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا اور وہ بھی انھیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تنہا ہو جانے کی وجہ سے دونوں بھینیں گھری مایوسی کی حالت میں چل گئیں یہاں تک کہ انھیں کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہا اور ان کا کھانا پینا تقریباً چھوٹ گیا۔ دونوں اتنی کمزور ہو گئیں کہ کسی سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں۔ آخر گھری افسردگی کی حالت میں غذائیت کی کمی کی وجہ سے انھیں اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ غذائیت کی شدید کمی کی وجہ سے انورادھا چل بسی، مگر ڈاکٹروں، نرسوں اور سوچل ورکروں نے بہت محنت کر کے سونالی کو یا سیت (Depression) اور غذائیت کی کمی سے بچالیا اور ساتھ ہی اسے متوازن غذا کی اہمیت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کیں۔ اور پر دیے گئے واقعے کی روشنی میں نیچے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

1۔ وہ کیا وجوہات تھیں، جن کی وجہ سے انورادھا اور سونالی نے کھانا پینا بند کر دیا تھا؟



2۔ کیا آپ جب ناراض یا اداس ہوتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دینے ہیں؟ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے لیے، صحت مندرجہ بہنے کے لیے اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔

### 2.1.5 کھانا، آسودگی کا ذریعہ

ہم بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا ہمیں ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی آسودہ کرتا ہے۔ لہذا کھانا خوشی اور آسودگی کے لیے ہماری زندگی کا لازمی جز ہے۔

### 2.1.6 کھانے کی سماجی اہمیت

ہماری سماجی زندگی میں کھانا مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ کھانے سے آسودگی حاصل ہوتی ہے اور سماجی رشتے بنتے ہیں۔ ہم اپنی سماجی تقریبات میں کھانے کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں، اس طرح ہمارے اندر شرکت داری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔

### 2.1.7 نفسیاتی عمل

سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا ہماری جذباتی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ پیار، تحفظ اور توجہ ہماری نفسیاتی ضرورتیں ہیں۔ پسند اور فرمائش کے مطابق کھانا، تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بچہ جب ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے تو وہ اس وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ بھوک سے پہلے غذا کی ضرورت کو محسوس کر لینا اور اسے پورا کر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے توجہ دیتے ہیں۔ مل بانٹ کر کھانا بھی محبت اور دوستی کی علامت ہے۔

## 2.2 غذا اور غذا ائیت

کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہم کھانے سے توانائی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اب ہم کھانا اور اس کے عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غذا ایک سائنس ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کس طرح ہضم ہوتی ہے اور کس طرح ہمارے جسم کے کام آتی ہے؟ کس طرح ایک بچہ پہلے ایک نوجوان اور پھر ایک بوڑھا آدمی بن جاتا ہے۔

جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں کئی طرح کے کیمیاوی اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ کیمیاوی اجزاء، غذا ائیت کہلاتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غذا ائیت کھانے کے وہ نظر نہ آنے والے اجزاء ہیں جو جسم کو صحت مند

## ماڈیول-1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹ

رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان تغذیوں کے مختلف نام اور کام ہیں جو وہ ہمارے جسم میں انجام دیتے ہیں۔  
کھانے کی تغذیات درج ذیل ہیں:

Carbohydrates	کاربوبہائیڈریٹ	•
Proteins	پروٹین	•
Fats	چکنائی	•
Vitamins	وٹامن	•
Minerals	معدنیات	•
Fibers	ریشے	•
Water	پانی	•

## 2.3 غذا ایجتیہت کے ذرائع اور عمل

اب ہم تغذیوں کے مختلف ذرائع اور عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔

## 2.3.1 کاربوبہائیڈریٹس

کاربوبہائیڈریٹس ہمارے جسم کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنا کسی کار کے لیے پڑوں، جس طرح پڑوں کا رکور چلاتا ہے، اسی طرح کاربوبہائیڈریٹس ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں، جس سے ہم سارے دن اپنے کام کاچ کرتے ہیں۔ کاربوبہائیڈریٹس کن کن چیزوں میں پائے جاتے ہیں؟ آلو، چاول اور مٹھائیوں میں کاربوبہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ غذا میں دو قسم کے کاربوبہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ یعنی شکر(sugar) اور نشاستہ(starch)۔

شکر(sugar): شکر کو سپل کاربوبہائیڈریٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ چلوں، شہد اور شکر میں پایا جاتا ہے۔

نشاستہ(starch): اسے کمپلکس شکر(Complex sugar) کہتے ہیں۔

سبریوں اور پیڑپودوں میں نشاستہ یا اشارج نام کی توانائی ہوتی ہے۔ جب ہم سبریوں والا نشاستہ یا اشارج کھاتے ہیں تو ہمارا نظام ہضم نشاستہ کو گلکوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ گلکوز ہمارے خون میں جذب ہو جاتا ہے اور ہمیں توانائی دیتا ہے۔

غذا کی کچھ قسموں سے ہمارے جسم کو کاربوبہائیڈریٹ کی شکل میں نشاستہ یا اشارج حاصل ہوتا ہے۔ ان میں والیں، آلو، شکر قندی وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ کھانوں سے شکر کی شکل میں کاربوبہائیڈریٹ ملتا ہے۔



نوٹ

مثال کے طور پر شہد، جام اور گڑ وغیرہ۔

ایک گرام کاربوبہائیڈریٹ Kcal H دیتا ہے۔ ایک آدمی کو 400 سے 420 گرام کاربوبہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ذرائع	کاربوبہائیڈریٹ کے کام
 <p>اسفارج (نشاستہ) کے ذرائع۔ اناج جیسے گھوٹوں، چاول، باجرہ، مکا، آلو، شکر قدی، اروی وغیرہ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تو انائی اور آسودگی دیتے ہیں۔</li> <li>کھانے کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں۔</li> <li>کاربوبہائیڈریٹ پروٹین کو دوسرے عمل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔</li> <li>کھانے کو مزے دار بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔</li> </ul>
 <p>شکر کے ذرائع: شکر، شہد، گڑ، مٹھائیاں، جام، مرتبہ وغیرہ</p>	

### 2.3.2 پروٹین

جسم کے رگ پھوٹوں کو بنانے، نئے خلیوں کو بنانے اور بافتوں کی مرمت کرنے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پٹھے، اعضا (organs) اور خون میں زیادہ تر پروٹین کی مقدار ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پروٹین نہ ملے تو ہمارا جسم نہ نئے خلیے بناسکتا ہے اور نہ ٹوٹے پھوٹے خلیوں (cells) کی مرمت کرسکتا ہے۔ پروٹین حیواناتی (animal) اور نباتاتی (plants) دونوں ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ حیوانات سے حاصل ہونے والے پروٹین کو حیواناتی پروٹین (animal protein) اور نباتات سے حاصل ہونے والے پروٹین کو نباتاتی پروٹین کہتے ہیں۔ ایک گرام پروٹین 4 کلو تو انائی (K cal) فراہم کرتا ہے۔ ایک آدمی کو روزانہ اپنے وزن کے مطابق ایک کلو کے لیے ایک گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوانی کا وزن 52 کلو ہے تو اسے روزانہ 52 گرام پروٹین کی ضرورت ہوگی۔

## ماڈیول 1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

## ذرائع

جیواناتی ذرائع  
گوشت، انڈا، چھلی، مرغ، دودھ، دہی، پنیر وغیرہ۔



## نباتاتی ذرائع

سارے اناج، والیں، پھلیاں، سویاں، خشک میوے،  
خصوصاً موونگ چھلی۔



## پروٹین کے فعل

- جسم میں نئے خلیے (cells) بنانے کے لیے ضروری ہے۔
- ٹوٹے پھوٹے خلیوں کی مرمت کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔
- رخموں کو بھرنے میں مددکرتا ہے۔
- خون، انزاٹم، (enzymes) اور ہارمون بنانے کے لیے ضروری ہے۔

## عملی کام 2.2



حساب لگائیے کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کتنی پروٹین کی ضرورت ہے۔ نیچے دیے گئے خاکے میں سب کا وزن اور پروٹین کی ضرورت درج کیجیے۔



افراد	وزن(17g)	پروٹین کی ضرورت گرام فی یوم
آپ/خود		
باب		
ماں		
بھائی		
بہن		



نوٹس

### 2.3.3 چکنائی (Fats)


ایک گرام چکنائی آپ کو 9K cal یعنی 9 کلو کیلو یز تو انائی فراہم کرتی ہے۔ حیوانات سے حاصل ہونے والی چکنائی کو حیواناتی چکنائی (Animal Fats) کہتے ہیں۔ پیڑ پودوں سے حاصل ہونے والی چکنائی کو باتاتی / بنا سپتی چکنائی (Plant fats) کہتے ہیں۔

چونکہ چکنائی، کاربوبہائیڈریٹس کے مقابلے میں زیادہ تو انائی فراہم کرتی ہے اس لیے ہمیں زیادہ چکنائی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ چکنائی (fats) ہمارے جسم میں تو انائی کا اہم ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ چکنائی دار کھانے ہمارے جسم کو موٹا کرتے ہیں۔ ایک اوسط عمر کے آدمی کو ایک دن میں صرف 30 گرام (دو چائے کے چمچے) چکنائی کی ضرورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاکلیٹ یا سکٹ، پکوڑے اور پیٹیز (Patties) میں بھی چکنائی ہوتی ہے؟

#### ذرائع

#### چکنائی (Fats) کے کام

- تو انائی فراہم کرتی ہے۔ چکنائی گاڑھی تو انائی کا گھی، مکھن، موونگ پھلی کا تیل، ناریل کا تیل، بنا سپتی، تملہ ہوئے کھانے، چاکلیٹ وغیرہ۔ ذریعہ ہے۔
- ہمارے جسم کو گرم رکھنے میں مدد کرتی ہے۔
- چکنائی میں گھل جانے والے وٹامن جیسے A,D,E,K کو استعمال کرنے میں مدد کرتی ہے۔
- نازک اعضاء جسے دل اور جگر، پٹھوں اور ڈھانچے کی حفاظت کرتی ہے۔
- کھانے کو مزے دار بناتی ہے۔



#### عملی کام 2.3

اپنے گھر میں ایک مہینے میں اوسطًا خرچ ہونے والے تیل یا گھنی کی مقدار معلوم کیجیے اور حساب لگائیے کہ گھر کا ہر فرد روزانہ کتنی چکنائی استعمال کر رہا ہے۔ کیا گھر کے افراد کے مطابق چکنائی کا یہ استعمال مناسب ہے؟ مندرجہ بالا باتوں کو ذہن میں رکھ کر نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے۔

ایک مہینے میں گھر میں استعمال ہونے والا سارا تیل ..... کلو/لیٹر

## ماڈیول-1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

کلو/لیٹر

ایک مہینے میں گھر میں استعمال ہونے والا سارا گھری

گھر میں افراد کی تعداد.....

ایک مہینے میں ایک فرد کتنی چکنائی استعمال کرتا ہے.....

ایک دن میں ایک فرد کتنی چکنائی استعمال کرتا ہے.....

اشارہ۔ چکنائی کا استعمال = کل استعمال / افراد کی تعداد

اشارہ۔ ایک لیٹر چکنائی = ۹۱۰ گرام

## متن پر مبنی سوالات 2.1



1۔ کھانا کھانے کی چار وجوہات بیان کیجیے۔

2۔ صحیح جوڑے ملائیے۔

(i) جسم میں پروٹین کا خاص کام

(a) کھلینے اور کام کرنے کے لیے تو انائی فراہم کرنا

(b) بافتؤں کی مرمت اور نشوونما

(ii) تو انائی فراہم کرنے کے علاوہ چکنائی مددگار

ہوتی ہے

(c) کھانے کو مزے دار بناتا ہے۔

(iii) کاربوریٹس کا کام

(d) جسم کے نازک اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔

3۔ درج ذیل میں پائے جانے والے غذا کے اہم اجزاء کا نام لکھیے۔

غذا ایجت	غذا	نمبر	غذا ایجت	غذا	نمبر
	دودھ	-7		فش لیور آئسل	-1
	گردوں	-8		مکھن	-2
	گیوں	-9		باناسپتی	-3
	انڈا	-10		پنیر	-4
	شکر قدری	-11		دال	-5



نوٹس

		سرسوں کا تیل	-12-	گوشت	-6-
--	--	--------------	------	------	-----

4۔ اس معنے میں نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب تلاش کیجیے۔ آپ اپنے جواب نیچے سے اوپر اور ترجیحی لائنوں میں تلاش کیجیے۔ پھر اپنے جواب نیچے دی ہوئی خالی جگہوں میں بھریے۔

C	E	R	E	A	L	S
A	P	I	S	Z	Q	D
B	R	K	X	F	W	S
D	O	M	W	A	H	A
C	T	G	A	T	R	K
N	E	R	Q	V	Y	K
M	I	F	W	B	I	L
T	N	D	E	M	K	Y
P	O	T	A	T	O	T

- ..... کون سا تغذیہ سب سے زیادہ توانائی فراہم کرتا ہے (a)  
 ..... انٹے میں کون سا غذائی جو سب سے زیادہ ہوتا ہے (b)  
 ..... ہمارے روزانہ کھانے میں سب سے زیادہ توانائی کا ذریعہ ہے (c)  
 ..... کاربوہائیڈریٹس کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ (d)

#### 2.3.4 معدنیات

معدنیات ہمارے جسم کے بافتوں اور جسم میں موجود تمام رتیق یا رطوبت میں پائی جاتی ہیں۔ کیلشیم اور فاسفورس جیسی معدنیات ہڈیوں اور دانتوں میں پائی جاتی ہیں۔ خون کے ایک جو ہیموگلوبن (haemoglobin) میں لوہا جیسی معدنیات پائی جاتی ہے۔ کھانے والی چیزوں میں معدنیات نمک کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔

کیلشیم اور فاسفورس ہمارے جسم کی ہڈیوں اور دانتوں میں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، جنہیں میکرو یا مینیمیٹر متر لر کہتے ہیں۔ آئرن اور آئیوڈین چونکہ جسم میں کم مقدار میں پائے جاتے ہیں اس لیے انہیں ماکسیکرو منزلر (micro minerals) کہتے ہیں۔

دس سال کے اب تک اور اس کی 8 سال کی بہن پر بیکانے اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ انھیں دودھ پینے اور ہری سبزیاں کھانے کی تاکید کیوں کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے دونوں کو ان کی بچپن کی تصویریں دکھائیں۔ وہ دونوں تصویریں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ماں سے پوچھا کہ وہ اتنے چھوٹے بچے سے اتنے بڑے کیسے ہو گئے یا ماں نے ہنسنے ہوئے کہا۔ یہ دودھ اور سبزیاں ہی ہیں بچو، جو تمہاری اتنی

## ماڈیول - 1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

اچھی نشوونما میں مددگار ثابت ہوئیں۔ دودھ اور سبزیوں میں ایسی کیا چیز ہے جن کی وجہ سے ابجے اور پرینکا کی اچھی نشوونما ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ معدنیات کا ہمارے جسم میں کیا رول ہے؟ معدنیات کے کام درج ذیل ہیں۔

معدنیات کے کام	ذرائع
<ul style="list-style-type: none"> <li>● جسم کی نشوونما اور ہڈیوں کو مضبوط بنانا۔</li> <li>● جسم میں پانی کے توازن کو برقرار رکھنا۔</li> <li>● پھلوں کو حرکت میں رکھنا</li> <li>● اعصاب کو مناسب کام کرتے رہنے میں مدد دینا</li> <li>● اور جب ضرورت ہو، خون کو جمانا۔</li> </ul>	دودھ
سبزیاں	

## کیلیشیم (a)

ہمیں اپنے روزانہ کے کھانے میں کیلیشیم کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ کیلیشیم ہمارے جسم میں درج ذیل کام کرتی ہے۔

## کیلیشیم کے کام

- (i) ہڈیوں کو بڑھنے میں مدد کرتی ہے اور انھیں مضبوط بناتی ہے۔  
(ii) دانتوں کو صحت مند اور مضبوط بناتی ہے۔

(iii) خون کے جمنے میں مدد کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی ہے تو خون بہنا ذرا سی دیر میں بند ہو جاتا ہے اور اور جنے ہوئے خون کی پڑی بن جاتی ہے۔ اسے خون کا جمنا (Blood clotting) کہتے ہیں۔ اسی کے لیے کیلیشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون کا جم جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ کیلیشیم زندگی بچانے کے لیے کتنا ضروری ہے۔

(iv) کیلیشیم پھلوں (Muscles) کو حرکت میں رکھتا ہے۔

بچپن میں مکمل نشوونما کے لیے بچوں کو بہت مقدار میں کیلیشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حاملہ عورت کو اپنی کوکھ میں پرورش پانے والے بچے کی نشوونما کے لیے زائد کیلیشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوڑھے لوگوں میں کیلیشیم کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو بڑھاپے سے پہلے کیلیشیم کی ضرورت کو محسوس کر لینا چاہیے۔

## ذرائع

- دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں جیسے، پنیر، دہی، لسی، چھاچھ، مکھن اور دودھ وغیرہ کیلیشم کا اچھا ذریعہ ہیں۔
- ہرے چپوں والی سبزیاں جیسے پالک، میٹھی، کری پتہ اور دھنیے کی پتیاں کیلیشم کا اچھا ذریعہ ہیں۔



نوٹس

## (b) لوہا


## کام

لوہا بہت ہی اہم معدن (Mineral) ہے۔

لوہا ہمارے خون میں ایک مرکب (Compound) ہے جو جسم کے ہر عضو کو آسیجن ہموجو گلوبین کو بناتا ہے، جو جسم کے پہنچاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نو عمری

تصویر 2.2

(10-9 سال) کے زمانے میں جسم میں لوہے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے؟ خصوصاً لڑکیوں میں یہ ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے روزانہ کھانے میں لوہے سے بھر پور چیزیں ضرور شامل کرنا چاہیے۔



## ذرائع

- ہرے چپوں والی سبزیاں جیسے پالک، سرسوں، میٹھی، پودینہ وغیرہ
- اناج اور ہر قسم کی پھلیاں دالیں وغیرہ
- کلیجی، دل، گردہ اور انڈے کی زردی
- گزر
- کھجور اور انار



آنولہ لوہے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بہت سستا ہوتا ہے اور اسے روزانہ کھایا جاسکتا ہے۔ آنولے سے بننے والی دو چیزوں کے نام لکھیے۔

**ماڈیول-1**

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

**(c) آئیوڈین**

جسم کی مناسب نشوونما اور دماغ کو ٹھیک سے کریٹی نزم (cretinism) نامی بیماری میں جسم اور دماغ کام کرنے کے لیے آئیوڈین کی ضرورت ہے۔ بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں۔ آئیوڈین کی کمی سے کریٹی نزم (cretinism) نامی کبھی کبھی عقلی فتور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بیماری ہو جاتی ہے۔

**کام**

ہمارے جسم کے تھایپورائیڈ گلینڈس (thyroid glands) کو اپنا کام ٹھیک سے انجام دینے کے لیے آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔

**ذرائع**

- سمندری چیزیں جیسے مچھلی اور سمندری گھاس
- آئیوڈین والی زمین میں پیدا ہونے والی سبزیاں
- آئیوڈین والا نمک

وہ عمل ہے جس میں کھانے میں ماٹکرو ٹنڈے (micro Enrichment) یا Food fortification شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں سبق نمبر 4 میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔

**2.3.5 وٹامن**

وٹامن وہ مادہ ہے جس کی ہمارے روزانہ کھانے میں بہت کم ضرورت ہوتی ہے، مگر ہمارے جسم کو ٹھیک سے چلانے کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ وٹامن ہمارے جسم میں نہیں بنتے اس لیے کھانے کے ذریعے انھیں جسم میں پہنچانا بہت ضروری ہے۔ وٹامن کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

چکنائی میں گھل جانے والے وٹامن (Fat soluble vitamins) یہ وہ وٹامن ہیں جو چکنائی میں گھل جاتے ہیں جیسے A, E, D, A اور C۔

پانی میں گھل جانے والے وٹامن (water soluble vitamins) یہ وہ وٹامن ہیں جو پانی میں گھل جاتے ہیں جیسے B-complex، اور وٹامن C۔

آپ کو وٹامن کے کام سے بھی ضرور واقفیت ہونی چاہیے، نیچے دیے ہوئے ٹیبل میں وٹامن، ان کے کام اور ذرائع دیے جا رہے ہیں۔



نوٹس

کم کی وجہ سے بیماری	ذرائع	کام	وٹامن
روتندھی (Night Blind ness)	سبزیاں، پھل خصوصاً پیلے پھل دودھ، پنیر، انڈے کی زردی، مکھن، گھنی، لیکھنی، ہرے پتوں والی سبزیاں	<ul style="list-style-type: none"> <li>چکنائی میں گھل جانے والے وٹامن A</li> <li>روشنی میں جلد کو صحت مند بنانا</li> <li>مناسب نشوانہ اور پڑھوتری کے لیے ضروری</li> <li>دفائی قوت پیدا کرنا</li> </ul>	
تیل والی مچھلی، دودھ، پنیر، بچوں میں سوکھے اور ہڈیوں کے ساتھ مل کر دانتوں اور ننگے بدن پیڑھ کر بھی وٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ حاصل کیا جاسکتا ہے	یہ معدنیات (minerals) کے میٹھے پن کی بیماری بوجھوں میں جوڑوں کا درد		D وٹامن
بانتوں (Tissues) کو اناج، دالیں، پھلیاں	ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ یہ ایک اینٹی اکسی ڈیمینٹ (Anti ocident)		E وٹامن
خون کو جمنے میں مدد دیتا ہرے پتے والی سبزیاں			K وٹامن

## ماڈیول - 1


روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

## پانی میں گھل جانے والے وٹامن بی - کامپلکس

جسمانی توانائی کا استعمال دالیں، اناج، گیوں، چاول کرنے میں مددگار، نظام غیرہ ہاضمہ کو ٹھیک رکھنے میں مددگار



وٹامن C

جسم کے تمام خلیوں (cells) کو اس کی ضرورت سبزیاں، آلو، انکھوں والے معلومات اگلے اسپاٹ میں ہے۔ کیونکہ یہ خلیوں کو ایک اناج، امرود اور آنولہ اس کے دوسرے کے ساتھ باندھے بہترین ذرائع ہیں رکھتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کو صحیح مند بناتا ہے۔

## متن پر مبنی سوالات 2.2



- 1- صحیح جواب پر نشان لگائیے۔
  - (i) کیلشیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ کھانے کو مزے دار بناتی ہے۔
  - (ii) ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔
  - (iii) دانتوں کو مضبوط بناتی ہے۔
  - (iv) خون کو جنمے میں مدد کرتی ہے۔
- لو ہے کا بہترین ذریعہ
  - (i) آئیوڈین ملائمک
  - (ii) دودھ



نوٹ

(iii) ہرے پتوں والی سبزیاں

(iv) گیوں

(iii) فورٹی فائلڈ نمک (fortified salt) میں زیادہ ہے۔

(i) لوہا

(ii) آئیودین

(iii) کلیشیم

(iv) اور کی تینوں چیزیں

(iv) آئیودین کی کمی والے آدمی کو ضرور کھانا چاہیے۔

(i) سمندر سے ملنے والی کھانے کی چیزیں

(ii) جڑیں اور ٹہنیاں

(iii) دودھ سے بنی چیزیں

(iv) ریشے دار کھانا

(v) پٹپتوں (muscles) کو حرکت میں رکھنے کے لیے ضروری ہے۔

(i) آئیودین

(ii) لوہا

(iii) کلیشیم

(iv) اور کی تینوں چیزیں

2- یونچے دیے ہوئے وٹامن میں سے چکنائی میں گھل جانے والے (fat soluble) وٹامنوں پر (v) کا نشان لگائیے۔

(a) وٹامن A

(b) وٹامن B

(c) وٹامن C

(d) وٹامن D

3- درج ذیل کھانے کی چیزوں میں سے کس چیز میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے۔  
خالی جگہوں میں نام لکھیے۔..... آنول ..... (i)  
..... آنکھوں لے والی دالیں ..... (vii)..... گاجر ..... (ii)  
..... سورج کی کرنیں ..... (viii)

## ماڈیول 1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

.....(ix) دودھ	.....(iii) انارج
.....(x) مکھن	.....(iv) انڈا
.....(xi) سیتا پھل	.....(v) پچھلی کا تیل
.....(xii) کلنجی	.....(vi) ہرے پتے والی سبزی
	4۔ خالی جگہوں کو بھریے۔
	(i) میں.....بیٹھنے سے وٹامن ڈی حاصل کیا جاسکتا ہے۔
(ii) وٹامن A کا ایک اہم کام.....کو صحت مندر کھانا ہے۔	
(iii) مسوڑھوں اور دانتوں کو صحت مندر کھنے کے لیے.....لینا بہت ضروری ہے۔	
(iv) ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے والا وٹامن.....ہے۔	

## 2.4 غذائی ریشے

شروتی کی دادی بہت چاق و چوبندا اور نہس مکھ عورت ہیں، مگر وہ تین دن سے کچھ پریشان ہیں کیونکہ پچھلے تین دن سے انھیں اجابت نہیں ہوئی ہے۔ انھوں نے محسوس کیا کہ پچھلے تین چار دنوں سے انھوں نے نہ پھل اور سبزیاں کھائی ہیں اور نہ کافی مقدار میں پانی پیا۔ پھلوں اور سبزیوں میں ریشے ہوتے ہیں، جو بفضل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔

غذائی ریشے، جنہیں رفیج (Roughage) بھی کہتے ہیں، دراصل کھانے میں نہ ہضم ہونے والے کاربوبائیڈ ریٹھیں ہیں۔ پیڑ پودوں سے حاصل ہونے والی کھانے کی چیزوں میں ہی غذائی ریشے ہوتے ہیں۔

غذائی ریشوں سے بھر پور غذا میں درج ذیل ہیں:

- گیہوں کا بھوٹی والا آٹا، دلیہ
- پھل جیسے امروود، سیب، انناس، کیلیا
- دالیں، راجما، کالا چنا، پنے کی دال
- سبزیاں جیسے مرٹر، پھلیاں، گاجر، پھول گوبھی، ہرے پتوں والی سبزیاں۔

جب کھانے کی چیزوں کو پروس کے عمل سے گزارا جاتا ہے تو اس میں سے غذائی ریشے، وٹامن اور معدنیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بغیر پاٹش والے چاولوں میں پاٹش والے چاول کے مقابلے میں بہت زیادہ غذائی ریشے ہوتے ہیں۔ کیا آپ ایسی کچھ اور مثالیں پیش کر سکتے ہیں؟ گیہوں کا آٹا ایک ایسی چیز ہے، جسے تقریباً سبھی لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ اکثر لوگ آٹے کو پچھلنی سے چھان کر چپاتیاں بناتے ہیں۔ اس عمل میں گیہوں کی بھوٹی جو غذائی ریشوں سے بھر پور ہوتی ہے وہ ضائع



نوٹ

## غذا اور غذا ایمیٹ

ہو جاتی ہے اور اس طرح آٹے میں غذائی ریشے کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھلوں کے چھکلے بھی غذائی ریشے سے بھر پور ہوتے ہیں۔

Satiety کے معنی ہیں شکم سیر ہونا۔ پیٹ بھر جانے کے احساس کے بعد ہم زیادہ کھانا کھانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اجابت نرمی کے ساتھ اور کھل کر ہوتی ہے۔

ریشوں والے کھانے کو خوب چاکر کھانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح شکم سیری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ غذائی ریشوں والی خوراک ہمیں درج ذیل بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہوتی ہے:

- قبض
- بڑی آنت کا کینسر
- ذیابیطس
- موتاپا



یاد کیجیے کہ آپ نے کل کیا کھایا تھا؟ اور اس میں غذائی ریشوں سے بھر پور خوراک کون سی تھی۔

## 2.5 پانی



ਮئی کے مہینے میں موہن کی ماں کسی کام سے بے پور جا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے کھانے کے ساتھ پانی کی دو بولیں بھی رکھیں۔ موہن نے ماں سے پوچھا کہ پانی کی دو بولوں کی کیا ضرورت ہے۔ ماں نے اسے بتایا کہ گرمی کے موسم میں پسینہ بہت آتا ہے اور اس طرح جسم کا بہت سا پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ پانی پینا

## ماڈیول - 1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

چاہیے۔ پانی کی اس کمی کو مختلف قسم کے شربتوں مثلاً کسی، دودھ اور پھلوں کے عرق سے بھی پورا کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس سردی کے موسم میں ہمارے جسم کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اب موہن سمجھ گیا تھا کہ موسم کے اعتبار سے ہمارے جسم کی پانی کی ضرورت بھی بدلتی رہتی ہے۔ ایک آدمی کو ایک دن میں تقریباً 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے۔ پانی کوئی غذائی جز نہیں ہے۔ مگر پھر بھی یہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے کیونکہ

- یہ ہمارے جسم میں پانی جانے والی ساری رطوبت کا ایک اہم جزو ہے۔

- یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور غذاخیت کو سارے خلیوں تک پہنچاتا ہے۔

- یہ ہمارے جسم کی حرارت کو متوازن رکھتا ہے۔ گرمیوں میں پینے کے ذریعے جسم کی گرمی کو باہر نکالتا ہے۔

- جسم کے فاضل ماڈے کو پیشاب کی شکل میں باہر نکالتا ہے۔

## عملی کام 2.5



مشاهدہ کیجیے۔ جب آپ 6—8 گھنٹے تک پانی نہ پین تو پیشاب کا رنگ کیسا ہو گا۔ جب ہر آدھے گھنٹے پر پانی پین تو پیشاب کا رنگ کیسا ہو گا؟ نیچے لکھے سوالوں کے جواب دیجیے۔

رنگ	پانی پینے کا وقفہ
6—8 گھنٹے تک پانی نہ پین (جب آپ صبح پہلی بار پیشاب کرنے جاتے ہیں)	
ہر آدھے گھنٹے پر پانی پین	

## متن پر مبنی سوالات 2.3



1۔ نیچے دیے گئے بیانات پر صحیح یا غلط کے نشان لگائیے۔ اگر صحیح ہے تو وجہ بھی بیان کیجیے۔  
(i) صحیح / غلط کھانے میں ریشوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

(ii) صحیح / غلط سب کھانے سے پہلے اسے چھیننا ضروری ہے۔

(iii) صحیح / غلط ریشے کیسر سے بچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔



نوٹ

(iv) صحیح/غلط ریشے موٹا کرتے ہیں۔

(v) صحیح/غلط انگور اور ٹماٹر میں ریشے ہوتے ہیں۔

(vi) صحیح/غلط ریشوں کی وجہ سے کھانے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔

(vii) صحیح/غلط ریشوں کے نہ کھانے سے آپ دبلے ہو جائیں گے۔

## 2.6 ناقص تغذیہ والی بیماریاں

گیتیکا اپنا وزن کم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اکثر کھانا چھوڑ دیتی تھی۔ اس کی استانی کو یہ شکایت رہتی تھی کہ گیتیکا کلاس میں چاق و چوبنڈ نہیں رہتی، بلکہ سُست سی رہتی ہے۔ ایک دن وہ اسکول میں بے ہوش ہو گئی۔ استانی نے اس کی ماں کو بلوایا۔ ماں نے بتایا کہ پچھلے تین چار مہینوں سے گیتیکا بہت کم کھانا کھاتی ہے۔ اسی لیے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ استانی نے انھیں سمجھایا کہ کھانا چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کے جسم میں غذا ایت کی کمی ہو گئی ہے۔ اسی لیے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ غذا ایت کی کمی اس کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔

اب گیتیکا صحت کے لیے غذا ایت کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ اچھی صحت کے ہر تغذیہ کا ہمارے جسم میں ایک خاص روپ ہے۔

اگر آپ کے کھانے میں تغذیے نہ شامل ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو گا؟ آپ کا جسم ٹھیک سے کام نہیں کر پائے گا اور آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ غذا ایت سے بھر پور کھانا کھانا شروع کر دیں تو آپ کی صحت خود بخود ٹھیک ہونے لگے گی۔

یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی بیماریوں کو ناقص غذا ایت والی بیماریاں کہتے ہیں۔ ہمارے روزانہ کھانے میں پوری غذا ایت/تغذیات کا نہ ہونا ہی تغذیہ کی کمی کہلاتا ہے۔ ناقص تغذیہ والی بیماری جسم کی اس حالت کو کہتے ہیں جب ایک لمبے عرصے تک ہمارے کھانے میں سے کوئی ایک یا کئی غذائی اجزاء کم ہوں یا بالکل نہ ہوں۔ اگر وہ غذائی اجزاء کھانے میں شامل کر دیے جائیں تو صورت حال اس کے برکھ ہو گی۔ بچے اور بوڑھے ناقص تغذیہ والی بیماری میں زیادہ بنتا ہوتے ہیں۔ اب ہم ناقص تغذیہ والی کچھ

## ماڈیول 1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

عام بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے۔

### 2.6.1 پروٹین تو انائی کی کمی

جب کھانے میں زیادہ عرصے تک پروٹین اور تو انائی کی کمی ہوتی ہے۔ تو ناقص پروٹین تو انائی نام کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ بیماری 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں غریب گھروں کے بچوں اور خط افلاس سے یونچے رہنے والے بچوں میں بڑے پیمانے پر یہ بیماری موجود ہے۔ جب بچہ اس بیماری میں بیتلہ ہوتا ہے تو اسے دست شروع ہو جاتے ہیں اور جسم میں دفاعی قوت کی وجہ سے دوسرا انفیکشن بھی ہو جاتے ہیں۔

ناقص پروٹین تو انائی دو طرح کی ہوتی ہے۔



تصویر 2.5 بچہ کواشی اور کر سے متاثر

- (1) اگر کھانے میں پروٹین کی کمی ہو، لیکن کاربوہائیڈریٹس سے تو انائی مل رہی ہو، تو اس صورت حال کو کواشی اور کر (Kwashiorkor) کہتے ہیں۔ پروٹین کی کمی وجہ سے بچوں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔



تصویر 2.6 مرامیس سے متاثر بچہ

- (2) جب ایک لمبے عرصے تک پروٹین اور تو انائی دونوں ہی کی کمی ہوتی ہے تو مرامیس نام کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں بچے کی نشوونما پر اثر پڑتا ہے اور بڑھوٹری رک جاتی ہے۔



تصویر 2.7 موٹاپے سے متاثر بچہ

- (3) جب کھانے میں کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہوتی ہے تو بچہ کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور وہ دبلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناقص غذائیت malnutrition کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کیلوویز کا استعمال زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اگر کھانے میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہو تو انسان موٹا ہونے لگتا ہے۔ یہ صورت حال عام طور سے خوش حال گھرانوں کی ہے۔ شہروں کے لوگ اس مسئلے کی وجہ سے زیادہ تصویر 2.7 موٹاپے سے متاثر بچہ



نوٹس

پریشان ہیں، کیونکہ وہاں جسمانی محنت برائے نام رہ گئی ہے۔

### 2.6.2 وٹامن A کی کمی

بچوں میں وٹامن A کی کمی خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں بھی بہت جلد وٹامن A کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جبکہ وٹامن A جسم کی بڑھوتری اور مناسب نشوونما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وٹامن A کی کمی سے بچے کی باڑھ ماری جاتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے آنکھوں کا سفید حصہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے چل کر آنکھوں کے سفید حصے میں جھٹر یا پڑ جاتی ہیں۔ آنکھوں کی پُٹلی میں دھندا پن پیدا ہو جاتا ہے اور یہیں سے روندھی کی شروعات ہوتی ہے، یعنی بچہ دھنڈلی روشنی میں اچھی طرح نہیں دیکھ پاتا ہے۔ وٹامن A سے بھرپور غذا کھانے سے یہ پریشانی اکمی دور ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر دکھ ہو گا کہ ہندوستان میں ہر سال 40,000 سے زیادہ بچے وٹامن A کی کمی کی وجہ سے اندر ہے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوآسانی سے دور کیا جاسکتا ہے۔

### 2.6.3 لوہے کی کمی (خون کی کمی)

لوہے کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہمارے ملک میں غذا ایت کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہر طبقے کی عورتوں اور بچوں میں پایا جاتا ہے۔

خون کی کمی anemia کی بڑی وجوہات ہیں:

- کھانے میں لوہے کی کمی یا جسم میں لوہے کے جذب ہونے کی صلاحیت کم ہونا۔

- بچوں اور بڑوں کے پیٹ میں کیڑے (hookworm) کا پایا جانا۔

- ایکسٹینٹ میں زیادہ خون بہہ جانا۔ بچے کی پیدائش کے وقت عورت کا زیادہ خون بہہ جانا۔

آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لوہا ہیموگلوبن بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ خون کی کمی یعنی اینمیا (anemia) کی وجہ سے خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، لہذا خلیوں (cells) میں آسیجن کی پلائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہم ہر وقت تھکن، بے چینی اور جسم میں درد محسوس کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو اچھی طرح انجام نہیں دے پاتے۔

### 2.6.4 وٹامن بی کا مپلکس کی کمی

وٹامن B سے بھرپور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے یہ کمی پیدا ہوتی ہے۔ منہ کے چھالے، زبان کے چھالے، زبان کی سرخی اور ہونٹوں کے کناروں کا پکھنا، وٹامن کا مپلکس کی کمی علامات ہیں۔

## ماڈیول - 1

روز مرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

کبھی کبھی پتلے دست اور پچھلے بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں بھوک نہیں لگتی اور کھانا کھالیں تو ہضم نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے پہلے ان علاقوں میں جہاں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں وہاں لوگوں کو بیری بیری (Beri) نام کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مگر اب یہ بیماری بہت کم ہو گئی ہے۔ اگر پالش والے چاولوں کی جگہ براون چاول کھائے جائیں تو یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔

## 2.6.5 وٹامن C کی کمی

اگر کھانے میں سبزیاں اور پھل نہ کھائے جائیں تو وٹامن C کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسکروی (Scurvy) نام کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسکروی میں ہمارے مسوز ہے، ہڈیاں اور دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مسوز ہے سونج جاتے ہیں اور ان سے خون آنے لگتا ہے۔ معمولی زخم بھی جلدی نہیں بھرتے۔ ان سب چیزوں کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ اپنے کھانے میں پھلوں اور سبزیوں کو شامل کریں اور روزانہ کھائیں۔

## 2.6.6 آیوڈین کی کمی والی بیماریاں

جسم کو صحیت مند رکھنے اور ٹھیک سے کام کرنے کے لیے آیوڈین لازمی ہے۔ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے گھیگھا (goitre)، عقلی فتور، ذہنی کمزوری اور بہرہ پن جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ گواٹر عام طور سے جوان لوگوں اور بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے آیوڈین کی کمی کی وجہ سے عقلی فتور (cretinism) پیدا ہونے کا اندازہ ہے۔

ہندوستان کے کچھ علاقوں میں گواٹر کی بیماری عام ہے۔ مثال کے طور پر ہمالیہ کی ترائی والے علاقے اور وہ علاقے جہاں سیلا ب زیادہ آتا ہے۔ حال میں یہ گئے سروے میں دیکھا گیا ہے کہ آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، بہار، گجرات اور کیرالا کے کچھ علاقوں میں یہ گواٹر کی بیماری عام ہے۔ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آیوڈین والا نمک استعمال کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری سرکار نے بغیر آیوڈین والے نمک کے استعمال پر پابندی لگادی ہے۔

**یاد رکھیے:** آیوڈین والے نمک کو بند ڈبے میں رکھیے اور آیوڈین والے نمک کے کھانے کو ڈھک کر پکائیے۔



## متن پر بنی سوالات 2.4



نوٹس

- 1- صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیے۔  
2- کسی چیز کی کمی والی بیماریاں پیدا ہونے کا سبب ہے۔  
 (i) کم پانی  
 (ii) غذائی اجزاء کا نہ ہونا  
 (iii) ورزش نہ کرنا۔  
 (iv) بیماری کے جرا شیم ہونا۔
- 3- وٹامن A ضروری ہے کیونکہ  
 (i) یہ روتندگی (Night blindness) بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔  
 (ii) جلد کو صحت مند بناتا ہے۔  
 (iii) خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔  
 (iv) قبض ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔  
 میں ہموجو بین کم ہو جاتا ہے۔
- 4- اگر آپ کار بہائیڈر میں زیادہ کھار ہے ہیں تو  
 (i) وزن کم ہو جائے گا۔  
 (ii) خون کی کمی ہو جائے گی۔  
 (iii) موٹے ہو جائیں گے۔  
 (iv) مرائمس نام کی بیماری ہو جائے گی۔
- 3- وٹامن A کی کمی نہیں ہونے دیتا۔  
 (i) پالک  
 (ii) یمو



نوٹس

- (iii) کیلا  
(iv) آلو

## 2.7 انواع و اقسام کے کھانا کھانے کی ضرورت

اب آپ نے مختلف تغذیوں اور ان کے مختلف کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ یہ بھی جان پکھے ہیں کہ ان تغذیوں کی کی کی وجہ سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسا کھانا کھانا کھانے کا چاہیے جو ہر طرح کے تغذیوں سے بھر پور ہو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایک ایسی کھانے کی چیز نہیں ہے، جس میں سارے کے سارے تغذیے پائے جاتے ہوں۔ لہذا ہمیں انواع و اقسام کی چیزیں کھانی چاہئیں تاکہ ہمارے جسم کو جن تغذیوں کی ضرورت ہے وہ سب حاصل ہو سکیں اور تغذیوں کی کی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔

### عملی کام 2.6



اپنے کھانے پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کو تمام تغذیے مل رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہاں۔ تو نیچے دیے گئے خاکے میں ہر کھانے کے سامنے اس سے حاصل ہونے والے تغذیات کے نام لکھیے۔ اگر نہیں۔ تو اپنے کھانے میں ایسی ترمیم کیجیے کہ آپ کو تمام مطلوبہ تغذیے ملنے لگیں۔

آپ کا موجودہ کھانا	کھانے کی مقدار	تغذیے
ناشر		
دوپہر کا کھانا		
رات کا کھانا		

اگر ضرورت ہے تو تبدیلی اور ترمیم

ترمیم شدہ کھانا	تغذیے
ناشر	
دوپہر کا کھانا	
رات کا کھانا	



نوٹ

## 2.8 صحت اور غذا کا رشتہ

غذا کی معلومات ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتی ہے کہ صحت مندر ہنے کے لیے ہمیں کس کس طرح کی چیزیں کتنی مقدار میں کھانی چاہیں۔

ورلڈ ہیلتھ آرگانائزیشن (WHO) نے صحت کی تعریف اس طرح کی ہے۔ ”صحت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ جسم میں کسی قسم کی بیماری نہ ہو، بلکہ جسمانی، ذہنی اور سماجی اعتبار سے مکمل طور پر صحت مند ہونا صحت مند زندگی کی علامت ہے۔“ اس طرح صحیح معنی میں صحت مندر ہنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ صحیح غذا کھائیں بلکہ ہماری ذہنی اور سماجی سوچ بھی صحت مند ہونی چاہیے۔



آپ نے کیا سیکھا

- کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چکنائی، وٹامنز اور معدنیات ہمارے جسم کے لیے لازمی تغذیہ ہیں۔
- پانی تغذیہ نہیں ہے، مگر ہماری غذا کا ایک لازمی جزو ہے۔ یہ ہمارے جسم کو اچھی طرح کام کرنے کے قابل بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔
- دودھ، پنیر، انڈے، گوشت اور دالیں پروٹین کے اچھے ذرائع ہیں۔
- ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو صحت مندر کرنے کے لیے ہمیں کیلشیم اور وٹامن D کی ضرورت ہوتی ہے۔
- تازہ سبزیوں اور ٹرٹش پھلوں میں بھرپور وٹامن C پایا جاتا ہے۔
- ہرے پتوں والی سبزیاں، اناج، دالیں اور کھجور لوہے کے بہترین ذرائع ہیں۔
- لوہے کی کمی سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔
- ہرے پتوں والی سبزیاں، دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں، انڈا، مکھن اور گھنی وٹامن A کے اچھے ذرائع ہیں۔
- وٹامن اے کی کمی سے روتندھی (night blindness) کی بیماری ہو جاتی ہے اور جلد سوکھی اور کھردی ہو جاتی ہے۔
- کھانے کی طرف سے لاپرواہی برتنے کی وجہ سے وٹامن کی کمی والی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

## ماڈیول 1

روزمرہ کی زندگی میں ہوم سائنس



نوٹس

## اختتامی سوالات



- 1- غذا کے چار اہم کام لکھیے
- 2- اسکول جانے والے ایک چاق و چوبنڈ بچے کے لیے تو انائی فراہم کرنے والی غذاوں کے نام لکھیے۔
- 3- نو عمر بچوں کی غذا میں کیلیشیم اور لوہے کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے۔ وضاحت کیجیے۔
- 4- وٹامن کی کمی سے پیدا ہونے والی چار بیماریوں کے نام لکھیے۔ ہر ایک کی کم از کم ایک علامت بھی لکھیے۔
- 5- کالم الف میں دیے گئے تغذیے اور کالم ب میں ان کے کاموں کے جوڑے ملائیے۔

## کالم ب

## کالم الف

جسم کی نشوونما اور بافتؤں کی مرمت

(i) وٹامن اور معدنیات

تو انائی دینے والے

(ii) پروٹین

بیماریوں سے لڑنے کی قوت پیدا کرنا

(iii) کاربوہائیڈ ریٹن

6- خالی جگہوں کو بھریے

نمبر شمار	تغذیے کا نام	خاص کام	ذرائع	کی کی وجہ سے ہونے والی بیماری	1	2
-1	وٹامن					
-2	وٹامن C					
-3	وٹامن D					
-4	کیلیشیم					
-5	آئرن - لوہا					
-6	آئیوڈین					
-7	پانی					

## متن پر مبنی سوالات کے جوابات



2.1

- 1- متن دیکھیے
- 2- (i) ب (ii) ج (iii) الف



نوٹس

(d) آلو	(c) اناج	(b) پروٹین	(a) چکنائی	-3
(3) چکنائی	(2) چکنائی	(5) پروٹین	(1) چکنائی	
(6) پروٹین	(9) کاربوبہائیدرائیٹس	(4) پروٹین	(8) کاربوبہائیدرائیٹس	
(12) چکنائی	(11) کاربوبہائیدرائیٹس	(10) پروٹین	(7) کاربوبہائیدرائیٹس	

2.2

- (ii) (iii) (i) -1
- (ii) (iii) (iii)
- (v) (i) (iv)
- 
- 
- 
- 
- 

D (d) وٹامن A (a) -2

B (iii)	A (ii)	C (i)	-3
B (vi)	D (v)	B (iv)	
D (v)	A (ix)	D (viii)	
A (x)	A (xii)	C (vii)	
A (xii)	D (xi)	D (x)	
B (iv)	کیلیشیم (iii)	آنکھیں (ii)	-4

2.3

- (i) غلط، نظام ہضم کو درست رکھتا ہے۔
- (ii) غلط۔ سبب کے حصکے میں ریشے ہوتے ہیں۔
- (iii) صحیح
- (iv) غلط۔ ریشے آپ کو صحت مند بناتے ہیں۔
- (v) صحیح
- (vi) صحیح
- (vii) غلط

2.4

- |          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| (ii) (3) | (i) (2)   | (ii) (1) |
|          |           |          |
| (i) (5)  | (iii) (4) |          |